

**SINDH ACT NO.XIX OF 2014**  
**The Sindh Civil Servants (Amendment) Act,**  
**2014**

**سندھ ایکٹ نمبر XIX، مجریہ 2014**  
**سندھ کے سرکاری ملازمین کے متعلق (ترمیم)**  
**ایکٹ، 2014**

**فہرست (Contents)**

تمہید (Preamble)

1. مختصر عنوان اور نافذ ہونا۔

(Short Title and Commencement)

2. سندھ ایکٹ نمبر XIV مجریہ 1973 کی دفعہ C-23 میں اضافہ۔

Insertion of section 23-C in Sindh Act No.XIV of 1973.

**SINDH ACT NO.XIX OF 2014**  
**The Sindh Civil Servants (Amendment) Act, 2014**  
**سندھ ایکٹ نمبر XIX، مجریہ 2014**  
**سندھ کے سرکاری ملازمین کے متعلق (ترمیم) ایکٹ، 2014**

[11 نومبر 2014]

سندھ کے سرکاری ملازمین کے متعلق ایکٹ مجریہ 1973 کو تبدیل کرنے کا ایکٹ۔

تمہید (Preamble)

جیسا کہ یہ وقت کی تقاضا ہے کہ سندھ کے سرکاری ملازمین کے متعلق ایکٹ، مجریہ 1973 (The Sindh Civil Servants Act, 1973) کو تبدیل کیا جائے۔

مختصر عنوان اور  
شروعات۔  
Short Title and  
Commencement.

جسے مندرجہ ذیل طریقے سے تبدیل کیا جا رہا ہے:

1. (1) اس ایکٹ کو سندھ کے سرکاری ملازمین کے متعلق (ترمیم) ایکٹ، (The Sindh Civil Servants (Amendment) Act, 2014) کہا جائے گا۔  
2. (2) یہ فی الفور نافذ ہوگا۔

سندھ ایکٹ نمبر XIV  
مجریہ 1973 کی دفعہ  
23-C میں اضافہ۔  
Insertion of section  
23-C in Sindh Act  
.No.XIV of 1973

2. سندھ کے سرکاری ملازمین کے متعلق ایکٹ، مجریہ 1973 کی دفعہ 23-B کے بعد یہ اضافہ کیا جائے گا:

(1) ”23-C. وفاقی ملازمین کی مقرری ( ) 23-C.

**Appointment of Federal Civil Servants**

بات اس ایکٹ کے منحرف نہیں ہے تو سرکار (اعلان) (notification) کے ذریعے کسی بھی فرد کو صوبے کے سرکاری ملازم مقرر کرسکتی ہے یا اسے صوبائی معاملات سے متعلقہ عہدے پر فائز کرسکتی ہے جو ملکی آئین (اٹھارویں ترمیم) ایکٹ 2010 (ایکٹ نمبر X مجریہ 2010) کے نافذ ہونے سے تھوڑا پہلے وفاقی معاملات سے تعلق رکھنے والے کسی عہدے پر فائز ہو اور اس کی خدمات اسی ترمیم شدہ ایکٹ مجریہ 2010 کی روشنی میں صوبے کو مطلوب ہوں۔

(2) حکومت تجویز کردہ طریقے کے مطابق ذیلی دفعہ (1) کی روشنی میں اسکی سینیارٹی اسکی نوکری کے شرائط ( terms and conditions) طے کرے گی۔“

نوٹ:- ایکٹ کا مذکورہ ترجمہ عام افراد کی واقفیت کے لیے ہے جسے کورٹ میں استعمال نہیں لیا جا سکتا۔

|